



سوال

(147) عشر اور زکوٰۃ کا مصرف

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مسجد کے امام کو عشر یا زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں جبکہ ہمارا امام عشر بھی لیتا ہے اور زکوٰۃ بھی۔ (سائل مذکور)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عشر و زکوٰۃ کے مستحقین فقراء و مساکین وغیرہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم میں سورۃ توبہ کے اندر کیا ہے اور وہ آٹھ مصارف ہیں۔ فقراء، مساکین، عاقلین زکوٰۃ، مولفۃ القلوب، غلام کی آزادی، مقروض، فی سبیل اللہ اور مسافر۔

اگر امام مسجد ان آٹھ مصارف میں سے کسی ایک مصرف کی جگہ پر آتا ہے تو اسے عشر و زکوٰۃ دی جاسکتی ہے بصورت دیگر نہیں۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

تفہیم دین

کتاب الزکوٰۃ، صفحہ: 199

محدث فتویٰ